

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن معمولات زندگی کو محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کے اپنے عمل کے مرحلہ 2 میں داخل ہو گیا ہے

برامپٹن، آن (24 جون، 2020) – آج، سٹی آف برامپٹن حکومت اونٹاریو کی جانب سے ریجن آف پیل کو صوبائی سطح پر دوبارہ کھولنے کے عمل کے مرحلہ 2 میں جانے کی اجازت کے اعلان کے بعد اپنی بحالی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔

مرحلہ 2 کے حصے کے طور پر، سٹی درج ذیل خدمات، سہولت گاہوں اور سہولیات کو بحفاظت دوبارہ کھولے گا:

سمر کیمپس

سٹی آف برامپٹن 13 جولائی سے 4 ستمبر تک 4 سال سے 10 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تبدیل شدہ سمر کیمپس کی پیشکش کر رہا ہے۔ رجسٹریشن کا عمل 29 جولائی سے آن لائن اور 311 کے ذریعے شروع ہو گا۔ تمام شرکاء کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے، پروگراموں میں انفرادی اندرونی اور بیرونی سرگرمیوں کی زیادہ تعداد شامل ہو گی۔ اضافی بہتر حفاظتی اقدامات بھی نافذ کیے جائیں گے، بشمول:

- ہر کیمپ گروپ میں زیادہ سے زیادہ آٹھ شرکاء اور دو اساتذہ
- کیمپ لیڈر ذاتی حفاظت کی اشیاء پہنیں گے
- تمام سہولت گاہوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کیا جانا

سپلیش پیڈز اور پروفیسرز لیک

سپلیش پیڈز بروز ہفتہ، 27 جون سے پورے برامپٹن میں کھلیں گے۔

سٹی جولائی کے وسط میں پروفیسرز لیک کو کھولنے کی توقع رکھتا ہے اور عوام کو ریزرویشن بکنگ کے ذریعے ساحل تک رسائی بھی حاصل ہو گی۔

ارینا: فگر سکیتنگ/ ہاکی ٹریننگ

مؤرخہ 29 جون سے شروع کرتے ہوئے، اریناز صرف تربیت کے لیے کھل جائیں گے۔ اس وقت کے دوران بکنگ کے بغیر تشریف لا کر استعمال کی اجازت نہیں ہو گی اور بکنگ 905-874-BOOK پر سٹی کے عملے کے ذریعے ہوں گی۔ کرایے کی بکنگ 25 جون سے شروع ہوں گی۔ اضافی حفاظتی اقدامات میں زیادہ سے زیادہ 10 شرکاء، بشمول کوچز، کے استعمال تک محدود کرنا شامل ہے۔ اس وقت کے دوران چینج روم تک کوئی رسائی نہیں دی جائے گی۔

کھیلوں کے میدان، ٹریک اینڈ فیلڈ، باسکٹ بال کورٹس

مؤرخہ 26 جون سے شروع کرتے ہوئے، بیرونی باسکٹ بال کورٹس بھی عوام کے استعمال کے لیے دستیاب ہوں گے۔

3 جولائی کو، کھیلوں کے بیرونی میدان اور بیٹنگ کیج اجازت کے ساتھ صرف تربیت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اس وقت کے دوران موقع پر استعمال کی اجازت نہیں ہو گی اور بکنگ 905-874-BOOK پر سٹی کے عملے کے ذریعے ہوں گی۔ چینج روم تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ ہر میدان میں زیادہ سے زیادہ 10 شرکاء، بشمول کوچز، کی اجازت ہے۔

آج سے شروع کرتے ہوئے، سٹی ایشیائے خوردو نوش والے کاروباروں سے عارضی طور پر بیرونی جگہوں کی توسیع کے لیے درخواستیں موصول کر رہا ہے۔ برامپٹن میں ریسٹورینٹس اور بارز کو باہر بیٹھنے کی زیادہ جگہ بنانے کے لیے اپنی بیرونی جگہوں کو سائیڈ واکس اور پارکنگ کی نجی جگہوں تک توسیع دینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کاروباروں کے لیے مزید معلومات سٹی کے [پیٹھو برامپٹن والے صفحے](#) پر موجود ہیں۔

برامپٹن لائبریری

برامپٹن لائبریری سٹی آف برامپٹن اور پبلک ہیلتھ کے ساتھ مشاورت سے دوبارہ کھلنے کے اپنے منصوبے کے مرحلہ 2 کے طور پر مخصوص مقامات پر شاخوں میں بلا رابطہ سڑک کنارے کتابیں لے جانے کا عمل متعارف کروا رہی ہے۔ تفصیلات www.bramptonlibrary.ca اور برامپٹن لائبریری کے فیس بک اور ٹویٹر [@bramptonlibrary](https://www.instagram.com/bramptonlibrary) پر دستیاب ہیں۔

لنکس

- [مرحلہ 2 میں تفریحی پروگراموں اور خدمات کا دوبارہ کھلنا](#)
- [سٹی کے دوبارہ کھلنے اور بندشوں کی مکمل فہرست](#)
- [سٹی آف برامپٹن کا دوبارہ کھلنا اور بحالی](#)
- [سٹی آف برامپٹن کی کووڈ-19 کے متعلق اب ڈیش](#)

اقتباسات

"مجھے صوبے کی جانب سے اپنے دوبارہ کھلنے کے منصوبے میں یہ سوچا سمجھا، علاقائی طریقہ کار اپنانے جانے پر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ تین مہینے پہلے ہنگامی حالت کا اعلان کرنے کے بعد آج کا دن ایک بہت بڑا سنگ میل ہے اور ایک ایسا لمحہ ہے، جو ہماری کمیونٹی کی جانب سے پبلک ہیلتھ کے مشورے پر عمل کرنے کے عزم کا نتیجہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے کافی سارے شہری اور کاروبار پر جوش ہیں اور میں تمام لوگوں کو یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی بحالی میں اس تحریک کو برقرار رکھنے کے لیے حفظان صحت اور حفاظت کے بہترین طریقوں پر عمل کرنا جاری رکھنا ہو گا۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"کئی ہفتوں کی منصوبہ بندی اور شہریوں اور مقامی اہم فریقین کے ساتھ رابطے کے بعد، سٹی اپنی کئی سہولیات کو بحفاظت دوبارہ کھولنے اور ایسی خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے، جو صوبے کے اعلان سے مطابقت رکھتی ہیں۔ میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے اور ہمارے سٹی کی مکمل بحالی کو ممکن بنانے کے لیے اپنی کمیونٹی کے مسلسل عزم کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔"

- مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ لیڈ، میئر ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ

"سٹی اپنی سہولت گاہوں اور سہولیات کو دوبارہ کھولنے کے لیے پبلک ہیلتھ کے ساتھ قریبی طور پر کام کر رہا ہے اور ان کی صحت و سلامتی کے حوالے سے رہنماء ہدایات اور ضابطوں پر عمل کر رہا ہے۔ ملازمین، شہریوں اور سیاحوں کی سلامتی ہماری ترجیح کے طور پر برقرار ہے اور جبکہ ہم اپنی تنظیم کے شعبہ جات کھولنا شروع کر رہے ہیں، پورے شہر میں اضافی حفاظتی اقدامات نافذ ہوں گے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن



BRAMPTON

Media Release

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca